

## 41 未来形

### 41.1 未来形の作り方

1) 基本型。動詞の語幹に次のような語尾を付加する。

人称	性	単数	複数
一人称	男性	ūṅgā	ēṅgē
	女性	ūṅgī	ēṅgī
二人称	男性	ēgā	ōgē
	女性	ēgī	ōgī
三人称	男性	ēgā	ēṅgē
	女性	ēgī	ēṅgī
āp	男性		ēṅgē
	女性		ēṅgī

میں اخبار (نہیں) پڑھوں گا۔ ہم اخبار (نہیں) پڑھیں گے۔  
میں اخبار (نہیں) پڑھوں گی۔ ہم اخبار (نہیں) پڑھیں گی۔

تو اخبار (نہیں) پڑھے گا۔ تم اخبار (نہیں) پڑھو گے۔  
تو اخبار (نہیں) پڑھے گی۔ تم اخبار (نہیں) پڑھو گی۔

وہ اخبار (نہیں) پڑھے گا۔ وہ اخبار (نہیں) پڑھیں گے۔  
وہ اخبار (نہیں) پڑھے گی۔ وہ اخبار (نہیں) پڑھیں گی۔

آپ اخبار (نہیں) پڑھیں گے۔ آپ اخبار (نہیں) پڑھیں گی۔

2) 動詞語幹の語末が長母音の場合

動詞語幹語末	
ā	ā + 未来形語尾
ō	ō + 未来形語尾
ī	i と短母音化 + 未来形語尾
ū	u と短母音化 + 未来形語尾

\* 動詞語幹語末の ī、ū は未来形語尾に接続するとき、i、u と短母音化する。

پڑھنا جانا دھونا پینا چھونا  
میں پڑھوں گا جاؤں گا دھوؤں گا پیوں گا چھوؤں گا  
پڑھوں گی جاؤں گی دھوؤں گی پیوں گی چھوؤں گی

تو پڑھے گا جائے گا دھوئے گا پیے گا چھوئے گا  
پڑھے گی جائے گی دھوئے گی پیے گی چھوئے گی

وہ پڑھے گا جائے گا دھوئے گا پیے گا چھوئے گا  
پڑھے گی جائے گی دھوئے گی پیے گی چھوئے گی

ہم پڑھیں گے جائیں گے دھوئیں گے پییں گے چھوئیں گے  
پڑھیں گی جائیں گی دھوئیں گی پییں گی چھوئیں گی

تم پڑھو گے جاؤ گے دھوؤ گے پیو گے چھوؤ گے  
پڑھو گی جاؤ گی دھوؤ گی پیو گی چھوؤ گی

وہ پڑھیں گے جائیں گے دھوئیں گے پییں گے چھوئیں گے  
پڑھیں گی جائیں گی دھوئیں گی پییں گی چھوئیں گی

آپ پڑھیں گے جائیں گے دھوئیں گے پییں گے چھوئے گا  
پڑھیں گی جائیں گی دھوئیں گی پییں گی چھوئیں گی

3) 不規則動詞 dēnā lēnā hōnā

人称	性	单数	複数
一人称	男性	dūṅgā lūṅgā hūṅgā	dēṅgē lēṅgē hōṅgē
	女性	dūṅgī lūṅgī hūṅgī	dēṅgī lēṅgī hōṅgī
二人称	男性	dēgā lēgā hōgā	dōgē lōgē hōgē
	女性	dēgī lēgī hōgī	dōgī lōgī hōgī
三人称	男性	dēgā lēgā hōgā	dēṅgē lēṅgē hōṅgē
	女性	dēgī lēgī hōgī	dēṅgī lēṅgī hōṅgī
āp	男性		dēṅgē lēṅgē hōṅgē
	女性		dēṅgī lēṅgī hōṅgī

	ہونا	لینا	دینا	
میں	ہوں گا	لوں گا	دوں گا	
	ہوں گی	لوں گی	دوں گی	
تو	ہوگا	لے گا	دے گا	
	ہوگی	لے گی	دے گی	
وہ	ہوگا	لے گا	دے گا	
	ہوگی	لے گی	دے گی	
ہم	ہوں گے	لیں گے	دیں گے	
	ہوں گی	لیں گی	دیں گی	
تم	ہو گے	لو گے	دو گے	
	ہوگی	لوگی	دوگی	
وہ	ہوں گے	لیں گے	دیں گے	
	ہوں گی	لیں گی	دیں گی	
آپ	ہوں گے	لیں گے	دیں گے	
	ہوں گی	لیں گی	دیں گی	

4) 不規則動詞 **dēnā**

人称	性	单数	複数
一人称	男性	<b>dūṅā</b>	<b>dēṅē</b>
	女性	<b>dūṅī</b>	<b>dēṅī</b>
二人称	男性	<b>dēgā</b>	<b>dōgē</b>
	女性	<b>dēgī</b>	<b>dōgī</b>
三人称	男性	<b>dēgā</b>	<b>dēṅē</b>
	女性	<b>dēgī</b>	<b>dēṅī</b>
<b>āp</b>	男性		<b>dēṅē</b>
	女性		<b>dēṅī</b>

不規則動詞 lēnā

人称	性	单数	複数
一人称	男性	lūṅā	lēṅē
	女性	lūṅī	lēṅī
二人称	男性	lēgā	lōgē
	女性	lēgī	lōgī
三人称	男性	lēgā	lēṅē
	女性	lēgī	lēṅī
āp	男性		lēṅē
	女性		lēṅī



不規則動詞 hōnā

人称	性	单数	複数
一人称	男性	hūṅā	hōṅē
	女性	hūṅī	hōṅī
二人称	男性	hōgā	hōgē
	女性	hōgī	hōgī
三人称	男性	hōgā	hōṅē
	女性	hōgī	hōṅī
āp	男性		hōṅē
	女性		hōṅī

## 42 不確定未来形

### 42.1 不確定未来形の作り方

未来形の語尾から **gā**、**gē**、**gī** をとると不確定未来形ができる。

人称	単数	複数
一人称	動詞語幹 + <b>ūṇ</b>	動詞語幹 + <b>ēṇ</b>
二人称	動詞語幹 + <b>ē</b>	動詞語幹 + <b>ō</b>
三人称	動詞語幹 + <b>ē</b>	動詞語幹 + <b>ēṇ</b>
<b>āp</b>		動詞語幹 + <b>ēṇ</b>

\* 否定語 **nah** を動詞の前に置くと否定文になる。

\* 否定語 **nahīṇ** は用いない。

### 42.2 不確定未来形の用法

1) 不確実な未来	「～ するかもしれない」
2) 許可	「～ してもよいですか」
3) 提案	「～ しましょうか」
4) 条件・仮定	「～ ならば」
5) 願望・祈願	「～ するように」
6) 依頼	「～ して下さい」

میں اخبار پڑھوں۔ ہم اخبار (نہ) پڑھیں۔

تو اخبار پڑھے۔ تم اخبار پڑھو۔

وہ اخبار پڑھے۔ وہ اخبار پڑھیں۔

آپ اخبار پڑھیں۔

کل شاید لڑکا جاپان جائے۔

کیا میں باہر جاؤں؟

کیا ہم یہ کھائیں؟

(ہم) جاپان چلیں۔

اگر آپ آئیں تو اچھا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ جاپان آئیں۔

(ہماری دعا ہے کہ) خدا آپ کو سلامت رکھے۔

آپ ذرا میری بات سنیں۔

## 43 推量の表現

### 43.1 推量の表現 「～ だろう」

「たぶん」を意味する次のような言葉を冠する。

šāyad ~
hō saktā hai keh ~
mumkin hai keh ~

شاید وہ لڑکا جاپانی (نہیں) تھا۔

ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا جاپانی (نہیں) تھا۔

مکمل ہے کہ وہ لڑکا جاپانی (نہیں) تھا۔

شاید وہ لڑکا جاپانی (نہیں) ہے۔

شاید لڑکا کتاب (نہیں) پڑھتا ہے۔

شاید لڑکا کتاب (نہیں) پڑھ رہا ہے۔

شاید لڑکا پاکستان (نہیں) گیا ہے۔

شاید لڑکا پاکستان (نہیں) گیا تھا۔

شاید لڑکے نے یہ کتاب (نہیں) پڑھی ہے۔

شاید لڑکے نے یہ کتاب (نہیں) پڑھی تھی۔

## 43.2

<p><b>hōnā</b> 動詞 現在形 → 未来形</p>	<p>「たぶん」を意味する言葉 をつけなくてもよい。 否定文には否定語 <b>nahīn</b> を用いる。</p>
-------------------------------------	--

1)

<p>主語 (+ 補語) + <b>hōnā</b> 動詞未来形 「 ~ だろう」</p>
---

2) 叙想法 推定未完了形

<p>主語 + . . . + 未完了分詞 + <b>hōnā</b> 動詞未来形 「 ~ しているだろう」</p>
--

3) 叙想法 推定進行形

<p>主語 + . . . 動詞語幹 + <b>rahnā</b> の 完了分詞 + <b>hōnā</b> 動詞未来形 「 ~ しているところだろう」</p>
--

وہ لڑکا جاپانی (نہیں) ہو گا۔  
وہ لڑکے جاپانی (نہیں) ہوں گے۔  
وہ لڑکی جاپانی (نہیں) ہو گی۔  
وہ لڑکیاں جاپانی (نہیں) ہوں گی۔

لڑکا اخبار (نہیں) پڑھتا ہو گا۔  
لڑکے اخبار (نہیں) پڑھتے ہوں گے۔  
لڑکی اخبار (نہیں) پڑھتی ہو گی۔  
لڑکیاں اخبار (نہیں) پڑھتی ہوں گی۔

لڑکا اخبار (نہیں) پڑھ رہا ہو گا۔  
لڑکے اخبار (نہیں) پڑھ رہے ہوں گے۔  
لڑکی اخبار (نہیں) پڑھ رہی ہو گی۔  
لڑکیاں اخبار (نہیں) پڑھ رہی ہوں گی۔

4) 叙想法 推定完了形

主語 + . . . + 完了分詞 + **hōnā** 動詞未来形

「 ~ しただろう」

\* 「 ~ してしまっているだろう」という未来完了形ではない。



لڑکا جاپان (نہیں) گیا ہو گا۔  
لڑکے جاپان (نہیں) گئے ہوں گے۔  
لڑکی جاپان (نہیں) گئی ہو گی۔  
لڑکیاں جاپان (نہیں) گئی ہوں گی۔

لڑکے نے میرا خط (نہیں) پڑھا ہو گا۔  
لڑکوں نے میرے خط (نہیں) پڑھے ہوں گے۔  
لڑکی نے میری کتاب (نہیں) پڑھی ہو گی۔  
لڑکیوں نے میری کتابیں (نہیں) پڑھی ہوں گی۔

### 43.3

<p><b>hōnā</b> 動詞 現在形 → 不確定未来形</p>	<p>「たぶん」を意味する言葉をつけなければならない。 否定文には否定語 <b>nah</b> を用いる。 不確定未来形を用いる方が未来形を用いるよりも疑いの念が強くなる。</p>
--	--

1)

<p><b>Š āyad</b> + 主語 (+補語) + <b>hōnā</b> 動詞不確定未来形 「たぶん ～ であるかもしれない」</p>
--

2) 叙想法 不定未完了形

<p><b>Š āyad</b> + 主語 + . . . + 未完了分詞 + <b>hōnā</b> 動詞 不確定未来形 「たぶん ～ しているかもしれない」</p>
--

3) 叙想法 不定進行形

<p><b>Š āyad</b> + 主語 + 動詞語幹 + <b>rahnā</b> の完了分詞 + <b>hōnā</b> 動詞 不確定未来形</p>
---

「たぶん ～ しているところかもしれない」

شاید وہ لڑکا جاپانی (نہ) ہو۔  
شاید وہ لڑکے جاپانی (نہ) ہوں۔  
شاید وہ لڑکی جاپانی (نہ) ہو۔  
شاید وہ لڑکیاں جاپانی (نہ) ہوں۔

شاید لڑکا اخبار (نہ) پڑھتا ہو۔  
شاید لڑکے اخبار (نہ) پڑھتے ہوں۔  
شاید لڑکی اخبار (نہ) پڑھتی ہو۔  
شاید لڑکیاں اخبار (نہ) پڑھتی ہوں۔

شاید لڑکا اخبار (نہ) پڑھ رہا ہو۔  
شاید لڑکے اخبار (نہ) پڑھ رہے ہوں۔  
شاید لڑکی اخبار (نہ) پڑھ رہی ہو۔  
شاید لڑکیاں اخبار (نہ) پڑھ رہی ہوں۔

4) 叙想法 完了形

Š āyad + 主語 + . . . + 完了分詞 + hōnā 動詞  
不確定未来形

「たぶん ～ したかもしれない」

شاید لڑکا جاپان (نہ) گیا ہو۔  
شاید لڑکے جاپان (نہ) گئے ہوں۔  
شاید لڑکی جاپان (نہ) گئی ہو۔  
شاید لڑکیاں جاپان (نہ) گئی ہوں۔

شاید لڑکے نے میرا خط (نہ) پڑھا ہو۔  
شاید لڑکوں نے میرے خط (نہ) پڑھے ہوں۔  
شاید لڑکی نے میری کتاب (نہ) پڑھی ہو۔  
شاید لڑکیوں نے میری کتابیں (نہ) پڑھی ہوں۔